



## سوال

(293) تعویز کی اصل حقیقت

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تعویز کے بارے میں ایک گروپ کا خیال ہے کہ اس کے پھنسنے کے بارے میں سخت وعید آئی ہے جب کہ دوسرے گروپ کا خیال ہے کہ علاج کے لیے تعویز پہننا درست ہے بشرطیکہ شرکیہ نہ ہو؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

تعویز کے جواز کے بارے میں میرا ایک تفصیلی فتویٰ "الاعتصام" میں شائع ہو چکا ہے جس کا ما حاصل یہ ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص پر مبنی تعویز کے بعض اہل علم جواز کے قائل ہیں لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ثابت شدہ دم جھاڑا پر اکتفا کیا جائے جس طرح کہ متعدد صحیح احادیث میں اس کا جواز مصرح ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

[فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ](#)

ج 1 ص 584

محدث فتویٰ